

SECURE LIFE PLAN
SAVING & PROTECTION PLAN

Your family is important to you; they are your joy, your pride and your world. This unconditional connection and bond of loved ones gives meaning to your life and you strive to give them the best in life. Securing their future means you have to be there for them at the best and worst of times, through thick and thin and through sickness and health. To protect them you require an investment and protection package that is specially designed to help you plan wisely for a financially secure and comfortable tomorrow.

Jubilee Life's Secure Life Plan gives your family total financial security while allowing you to customize the plan according to your needs. It provides you a solution that would allow your loved ones to financially manage situations which may go beyond control and a way to provide for your family's future goals, expenses and protect them from harsh uncertainties of life.

Jubilee Life offers you Secure Life Plan. Together with life insurance protection, this savings plan will help you save on regular basis so that you may have financial security and achieve your ambitions in life.

What is Secure Life Plan? Secure Life Plan is a unit linked endowment plan especially designed to accumulate funds on a regular basis while enjoying life insurance protection. The fund accumulated through the plan may be used for education and marriage of children, purchase of a house, expanding business, retirement income or any other purpose.

Why Secure Life Plan ?

- ✓ Plan your financial commitments the way you want
- ✓ Choose the investment fund according to your investment philosophy
- ✓ Grow your investments with superb investment strategies
- ✓ Top up your investments with extra funds that you may have
- ✓ Enjoy Guaranteed Minimum Death Benefit protection
- ✓ Customize your protections with Add On Benefits
- ✓ Combat inflation
- ✓ Get rewarded for continuing the plan
- ✓ **Policyholder can cancel the policy within 14 days from the receipt of the policy documents**

Eligibility

Individuals between the ages of 18 to 60 years are eligible to avail this plan.

Term

The available term range is from 10-30 years, subject to maximum age of 75 years at maturity

Protection

Secure Life Plan assures that your family has a guaranteed minimum level of life insurance protection while you save for your ambitions.

In case of your unfortunate death, your loved ones will receive the Sum Assured or Cash Value, whichever is higher.

Sum Assured is the guaranteed minimum amount payable on death. While Cash Value is the value of the unit account determined by multiplying the number of units in the Unit Account by the applicable bid price.

Built in Benefits

Accidental Death Benefit

An additional amount will be paid under this benefit in case death occurs due to an accident.

Add On Benefits

Secure Life Plan also gives you the option of tailoring your plan to meet your specific insurance needs by adding any or all of the following Add On Benefits:

- **Jubilee MediPal**

This optional rider by Jubilee Life provides coverage up to the annual limit of PKR 250,000 for in-patient expenses in case of illness or hospitalization and provides immediate support (hospitalization in private room) to the life assured and his/her spouse. The policyholder has the advantage of obtaining quality medical care services at any of the Approved Hospitals without having to pay anything. For further details, please refer to the separate leaflet of Jubilee MediPal.

- **Waiver of Premium**

Your premium from the next premium due date will be paid by Jubilee Life, should you suffer an illness or disability and are not able to follow your own occupation or any other occupation suited by your knowledge, training or education for at least six months.

- **Family Income Benefit**

An additional stream of regular income will be paid in addition to other benefits, in case of death. Your family may use this income for maintaining a decent standard of living.

- **Accidental Death or Dismemberment Benefit**

An additional amount will be paid under this benefit in case of death or dismemberment occurs due to an accident.

- **Permanent Total Disability Benefit**

Advances the benefit payable on death in case you suffer with permanent total disability.

- **Hospital Cash Benefit**

A daily benefit (up to Rs. 3,000) is paid if you are confined to a hospital. The benefit payable is doubled in case of hospitalization due to any of the specified Critical Illnesses. In case of confinement to ICU, additional 50% benefits will be payable. Spouse and children can also be covered under this benefit.

- **Critical Illness Benefit**

Advances the benefit payable on death in case you are diagnosed as having one of the 18 specified Critical Illnesses.

- **Cancer Cover Supplementary Benefit**

This benefit provides coverage in case you are diagnosed with cancer so that you and your loved ones can be relieved from the imminent financial burden and focus solely on your recovery and health. The benefit amount will be paid to you depending on the stage of the cancer, that is, either Early Stage or Late Stage.

Premium

The premium can be paid yearly, half-yearly or quarterly. The following table shows the breakdown of the minimum premium:

Frequency	Minimum Amount
Yearly	PKR 50,000
Half-Yearly	PKR 12,500
Quarterly	PKR 6,250

Allocation:

The proportion of the basic plan premium allocated to investment is as follows:

Policy Years	Allocation %
1	35%
2	80%
3	90%
4 & onwards	100%

Continuity Bonus

For continuing your plan (without any breaks) for a period of more than 5 years, you will be entitled to Continuity Bonus. This will be in the form of extra units being allocated to your unit account each year. With these extra units, your investment fund will grow at a pace faster than what you are paying at.

The extra unit allocation, as a proportion of basic plan premium is as follows:

Policy Years	Extra Allocation%
6 and onwards	3%

This extra allocation is in addition to the basic allocation

Funds Management

The premium paid are invested in fund(s) of your choice & units are allocated depending on the price of units for the fund(s). The value of your policy is the total value of units that you hold in the fund(s).

The funds are managed by expert investment managers with a view to optimize medium to long term returns balanced with risk.

Investment Options

Jubilee Life currently offers you a choice of the following four funds. You can choose to invest fully in any one fund that suits your investment needs or split your premium between options available.

Jubilee Life Balanced Fund	A fund designed to generate competitive long-term returns with balanced allocation in Equity, Government securities and other wide range of allowable asset classes. It is classified as fund having medium risk profile.
Jubilee Life Government Securities Fund	A fund designed to provide sustainable returns over long term with exposure in Government securities, Government securities related instruments and bank deposits. It is classified as fund having low risk profile.

Your Premiums, by default, will be allocated to **Jubilee Life Government Securities Fund** of Jubilee Life Insurance. It offers competitive returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of different money market & government debt securities and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

Your invested premiums are managed by expert investment managers and backed by premium financial securities to ensure optimized returns with manageable risk exposure. Your premiums will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life's fund(s) are published in all leading dailies and the Jubilee Life website: www.jubileelife.com

Flexibility to Manage your Investments

We offer you the flexibility to manage your investments. You can either allocate the entire premium into one of the funds or split your premium between multiple funds that are available. Subsequently, depending on the performance of funds, you can switch between funds. We allow you four free switches every policy year. Charges would be applicable from the fifth switch and will be deducted from the Cash Value / Unit Account prior to the switch.

Investment Top Ups

You may have extra funds available with you at any stage. You can top up your regular investments under this plan by making ad hoc premium payments. These contributions would be invested in the Unit Account at the then prevailing offer price.

Combating Inflation

Your Sum Assured and premium increases automatically every year up to the limit specified by the company without any medical investigations. You, of course, retain the right to decline this increase and continue your plan on the same terms and conditions as before.

Continuity Bonus

For continuing your plan (without any breaks) for a period of more than five years, you will be entitled to Continuity Bonus. This will be in the form of extra units being allocated to your unit account each year. With these extra units, your investment fund will grow at a pace faster than what you are paying at.

Withdrawal Options

Under Secure Life Plan, you have the ability to withdraw your funds (either fully or partially) after the completion of two policy years, provided you have paid premiums for two years.

- **Partial Withdrawal** - If you need to withdraw cash for meeting some emergency needs, but do not want to surrender the policy, you can withdraw any amount provided that the residual cash value of your policy after withdrawal is greater than or equal to Rs. 25,000 (the residual cash value floor may be reviewed by the company).
- **Full Policy Surrender** - After the completion of two policy years (given that two years' complete premiums have been paid), you can surrender your policy. At the time of surrender, you will be paid in full the Cash Value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash values.

Pricing Methodology

Jubilee Life follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

Other Charges*

The following charges* are applicable on the plan:

Initial Charge	5% of bid offer spread
Management Charge	1.5% p.a. of Fund Value
Administration Fee	Rs.145 per month (subject to revision by the Company)
Mortality Charge	As per SECP filing
Fund Switching:	Rs. 500 after first four free switches in a year
Premium Allocation Charge	Premium allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the premium received less percentage of the allocated premium for the year.

*All charges are reviewable by the Company

Free Look Period

Jubilee Life offers a free look period of 14 days during which you can review your policy terms & conditions and may like to alter or cancel the policy. Your premium will be refunded on receipt of written request within 14 days from the date of receipt of the policy document. Please note that Jubilee Life reserves the right to deduct the expenses incurred on medical examination.

Disclaimer

- The past performance of the funds offered by the Jubilee Life is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and Jubilee Life will not incur any liability for the same.
- This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by an Insurance Consultant. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Please refer to the Policy Documents for detailed understanding of the various terms and conditions.
- The investment risk shall be borne by the Policy Holder and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the policyholder if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.
- Supplementary Benefits may be available if the life covered is aged 55 years or less, nearest birthday at the time of issuance.
- Please refer to company web site for target asset mix of the underlying fund:
(<https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>)

Contact Details

In case of complaint or for further details, you may contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited

Head Office: 74/1-A, Lalazar, M.T. Khan Road,
Karachi, 74000, Pakistan

Tel: (021) 32120201, 35205094

Fax: (021) 35610959

Email: info@jubileelife.com

Website: www.jubileelife.com

UAN: (021) 111 111 554

SMS: Your Query to 8554

Jubilee
LIFE INSURANCE

سکیور لائف پلان
بچت اور تحفظ کا منصوبہ

آپ کا خاندان آپ کیلئے بہت اہم ہے۔ وہی آپ کی خوشیاں، آپ کا مان اور آپ کی کُل کائنات ہے۔ یہ غیر مشروط رشتہ آپ کی زندگی کو معنی دیتا ہے اور آپ اپنے پیاروں کو بہترین زندگی فراہم کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اُن کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اچھے بُرے وقت میں اُن کے ساتھ ہیں چاہے خوشحالی ہو یا مشکلات، چاہے صحت ہو یا بیماری۔ ان کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے آپ کو ایسی سرمایہ کاری اور حفاظتی حکمت عملی چاہیے جو ان کو مالیاتی تحفظ اور آرام دہ کل کی ضمانت دے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔

Jubilee Life 'سکیورلائف پلان' آپ کے خاندان کو مکمل مالی تحفظ فراہم کرتا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق اس پلان کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ پلان آپ کو ایک ایسا صلہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے خاندان کی ناقابل گرفت صورتحال میں مختلف اخراجات اور دیگر غیر یقینی حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔

Jubilee Life پیش کرتے ہیں سکیورلائف پلان۔ بیعہ زندگی کے تحفظ کے ساتھ یہ سیونگز پلان آپ کو باقاعدگی کے ساتھ بچت کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے تاکہ نہ صرف آپ مالی تحفظ کی ضمانت بلکہ اپنی زندگی کے مختلف عہدوں کی تکمیل کر سکیں۔

سکیورلائف پلان کیا ہے؟

سکیورلائف پلان ایک Unit linked endowment پلان ہے جو خاص طور پر اثاثوں کو (پیسوں کی شکل میں) باقاعدگی کی بنیاد پر جمع کرتا ہے جب آپ بیعہ زندگی کے تحفظ کے ساتھ لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ پلان کے ذریعے جمع کی گئی رقم بچوں کی تعلیم اور شادی، مکان کی خریداری، کاروبار میں وسعت، ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی اور دیگر مقاصد میں استعمال کی جاسکتی ہے۔

سکیورلائف پلان ہی کیوں؟

- ✓ اپنے مالی فرائض کی منصوبہ بندی اپنی مرضی سے کریں
- ✓ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیسے سرمایہ کاری کریں
- ✓ سرمایہ کاری کو بہترین حکمت عملی سے بڑھائیں
- ✓ سرمایہ کاری کو Ad hoc premium کے ذریعے مزید بڑھائیں
- ✓ یقینی ڈیٹھ بینیفٹ پروٹیکشن سے فائدہ اٹھائیں
- ✓ بیمہ کی رقم کے ساتھ ساتھ اضافی فوائد کے ذریعے اپنی لائف انشورنس میں اضافہ کریں
- ✓ مہنگائی کا مقابلہ کریں
- ✓ پلان کو مزید جاری رکھنے پر اضافی units حاصل کریں
- ✓ پالیسی ہولڈر پالیسی دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے اندر پالیسی کو منسوخ کر دے سکتا ہے۔

اہلیت

ایسا کوئی بھی شخص جو 18 سے 65 برس کے درمیان ہو، یہ پراڈکٹ خریدنے کا اہل ہے۔

میعاد

دستیاب مدت کی حد 10-30 سال ہے، جو کہ پچھلی پر زیادہ سے زیادہ 75 سال کی عمر کے تابع ہے

تحفظ

سیکور لائف پلان آپ کے خاندان کیلئے بیمہ زندگی کا یقینی تحفظ فراہم کرتا ہے جب آپ اپنے عوام کی تکمیل کیلئے بچت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ پلان کی مدت کے دوران انتقال کر جاتے ہیں تو آپ کے اہل خانہ کو بیمہ کی رقم یا کیش ویلیو (Cash Value) ان میں سے جو بھی زیادہ ہو حاصل ہوگی۔ سم ایشرڈ ہسٹ واقع ہونے کی صورت میں کم سے کم ملنے والا یقینی فائدہ ہے جبکہ کیش ویلیو پونٹ اکاؤنٹ کی وہ ویلیو ہے جسے آپ کے پونٹ اکاؤنٹ میں موجود نوٹس کو لاگو بڈ پرائس سے ضرب دے کر معلوم کیا جاتا ہے۔

بلٹ ان بینیفٹ

• حادثاتی موت بینیفٹ

اگر خدا نخواستہ کسی حادثے کے نتیجے میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس بینیفٹ کے تحت آپ کے اہل خانہ کو بیمہ کرائی گئی رقم کے علاوہ اضافی رقم بھی ادا کی جائے گی۔

Add-on فوائد

سیکور لائف پلان آپ کو آپ کے بیمہ کے متعلق خاص ضروریات کے لحاظ سے پلان کو تشکیل دینے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ آپ درج ذیل Add-on فوائد حاصل کر سکتے ہیں:-

• حادثاتی موت اور معذوری بینیفٹ

خدا نخواستہ کسی حادثے کے نتیجے میں اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے یا آپ کو معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس رائڈر کے تحت آپ کو بیمہ کی رقم کے علاوہ اضافی رقم بھی ادا کی جائے گی۔

• جوہلی میڈی پیل

جوہلی لائف کی جانب سے پیش کردہ یہ نیا اختیاری رائڈر بیمہ کنندہ یا شریک حیات کو کسی بھی حادثے یا بیماری کی باعث اسپتال کے نجی وارڈ میں علاج کی غرض سے 250,000 روپے تک کی فوری کوریج فراہم کرتا ہے۔ بیمہ کنندہ اس رائڈر کی بدولت کسی بھی منظور شدہ ہسپتال میں بلا معاوضہ اعلیٰ معیار کی طبی سہولت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے میڈی پیل کا اضافی کتا پچھ ملاحظہ فرمائیں۔

• پری میئم کی معافی

خدا نخواستہ اگر آپ کسی بیماری یا معذوری کی وجہ سے پچھلے 6 ماہ سے اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام نہیں دے سکتے ہیں تو اس رائڈر کے تحت Jubilee Life آپ کا اگلا پری میئم اپنی جانب سے ادا کرے گی۔

• فیملی انکم بینیفٹ

اس رائڈر کے تحت آپ کی موت کی صورت میں آپ کے اہل خانہ کو اپنا معقول معیار زندگی برقرار رکھنے کیلئے ایک اضافی باقاعدہ آمدنی کی فراہمی بھی شروع کر دی جاتی ہے۔

• مستقل / کٹی معذوری بینیفٹ

مستقل / کٹی معذوری کی صورت میں آپ کو آپ کی بیمہ کرائی ہوئی رقم یا کیش ویلیو (Cash Value) (جو بھی زیادہ ہو) قبل از وقت ہی ادا کر دی جائے گی۔

ہسپتال کیش بینیفٹ

یہ بینیفٹ آپ کو روزانہ اس صورت میں ملے گا کہ جب خدا نخواستہ آپ کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے ہوں۔ اگر آپ 18 مخصوص خطرناک بیماریوں کے نتیجے میں ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بینیفٹ دُگنا ہو جائے گا۔ آئی سی یو میں جانے کی صورت میں 50% اضافی بینیفٹ بھی ادا کیا جائے گا۔ اس بینیفٹ کے تحت آپ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی کور کر سکتے ہیں۔

خطرناک بیماری بینیفٹ

اگر آپ کو خدا نخواستہ 18 مخصوص خطرناک بیماریوں میں سے کسی ایک کی تشخیص ہو جائے تو آپ کی بیمہ کرائی گئی رقم یا کیش ویلیو (Cash Value) (جو بھی زیادہ ہو) موت سے قبل ہی ادا کر دی جائے گی۔ آپ مندرجہ بالا فوائد اضافی پریمیم کی ادائیگی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کی کیش ویلیو (Cash Value) / یونٹ اکاؤنٹ سے ایک رائڈ چارج کی کٹوتی کے ذریعے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

کینسر کورسٹیمینٹری بینیفٹ

یہ بینیفٹ آپ کو کینسر کی تشخیص کی صورت میں کوریج فراہم کرتا ہے تاکہ آپ اور آپ کے چاہنے والوں کو آنے والے مالی مشکلات سے نجات مل سکے اور پوری توجہ آپ کی صحت یابی پر مرکوز کی جاسکے۔ اس بینیفٹ کے تحت ملنے والی رقم کینسر کے اسٹیج (ابتدائی مرحلے یا درجے سے مرحلے) کے لحاظ سے ادا کی جائیگی۔

پریمیم

آپ پریمیم کی ادائیگی سالانہ، ششماہی اور سہ ماہی بنیادوں پر کر سکتے ہیں۔ کم از کم پریمیم کی ادائیگی کی تفصیل درج ذیل ہے:

کم از کم رقم	فریکوئنسی
50,000 روپے	سالانہ
12,500 روپے	ششماہی
6,250 روپے	سہ ماہی

یونٹس کی ایلوکیشن

سرمایہ کاری میں بنیادی پریمیم کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

ایلوکیشن	پالیسی کا سال
35%	1
80%	2
90%	3
100%	4 اور آگے

کنٹینیوٹی بونس

اگر آپ اپنے پلان کو 6 سال تک جاری رکھتے ہیں (بغیر کسی وقفے کے) تو اس صورت میں آپ 'کنٹینیوٹی بونس' کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ اضافہ ایکسٹرا یونٹس کی صورت میں ہر سال آپ کے یونٹ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ کنٹینیوٹی بونس کے ذریعے آپ کی سرمایہ کاری کی گروتھ میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہوگا۔

بیمہ پالیسی کے پریمیم کی مناسبت سے ایکسٹرا پونٹ ایلوکیشن کا تناسب درج ذیل ہوگا:

پالیسی کا سال	ایکسٹرا ایلوکیشن
6 اور زائد	3%

یہ ایکسٹرا ایلوکیشن پونٹس کی بنیادی ایلوکیشن کے علاوہ ہے۔

اثاثوں کی انتظام کاری

آپ کا ادا شدہ پریمیم آپ کی مرضی کے فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کیلئے لگایا جاتا ہے اور پونٹس کو فنڈ کی قیمت کے لحاظ سے مختص کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی پالیسی کی قیمت پونٹس کی کل قیمت کے برابر ہوتی ہے جو کہ آپ فنڈ میں رکھتے ہیں۔

ہمارے ماہر انویسٹمنٹ منیجرز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے فنڈ کی گروتھ میں کم سے کم رسک کے ساتھ اضافہ ہو۔

سرمایہ کاری کے آپشنز

Jubilee Life کی جانب سے فی الوقت مندرجہ ذیل چار فنڈز پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے پوری سرمایہ کاری کسی ایک فنڈ یا ان چاروں فنڈز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

جوبلی لائف ہیلتھ فنڈ	یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے گورنمنٹ سیکورٹیز اور قابل اجازت اثاثوں کی دیگر وسیع رینج میں متوازن مختص کے ساتھ مسابقتی طویل مدتی منافع پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پر وفاق والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔
جوبلی لائف گورنمنٹ سیکورٹیز فنڈ	یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے گورنمنٹ سیکورٹیز، گورنمنٹ سیکورٹیز سے متعلق آلات اور بینک ڈپازٹس میں سرمایہ کاری کے ساتھ طویل مدتی پائیدار منافع کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی کم رسک پر وفاق والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

آپ کے پریمیم، بطور ڈیفالٹ، جوبلی لائف انشورنس کے جوبلی لائف گورنمنٹ سیکورٹیز فنڈ میں مختص کیے جائیں گے۔ یہ مختلف منی مارکیٹ اور سرکاری قرضوں کی سیکورٹیز کے متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کر کے کم سے کم خطرے کے ساتھ، درمیانی مدت سے طویل مدتی تک مسابقتی منافع پیش کرتا ہے اور اس میں ایکویٹی سیکورٹیز میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔

تاہم، آپ کے پاس اعلامیہ فارم پر دستخط کر کے ڈیفالٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے علاوہ اپنی پسند کے کسی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔

آپ کے سرمایہ کاری شدہ پریمیم کا انتظام ماہر انویسٹمنٹ مینیجرز کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور اس کو تقویت پریمیم فنانشیل سیکورٹیز سے ملتی ہے تاکہ بہترین منافع کو قابل برداشت خطرے کے ساتھ یقینی بنایا جاسکے۔

آپ کے پریمیم منصوبے کی مدت کے دوران سرمایہ کاری پر منافع حاصل کریں گے۔

منتخب شدہ مدت کے اختتام پر، آپ کو اپنی جمع شدہ نقد قیمت کی شہادتیں مل جائیں گی۔

نوٹ: ان فنڈز کی ماضی کی کارکردگی لازمی طور پر ان فنڈز میں سے کسی کی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔

جوبلی لائف کے فنڈ کی یونٹ کی قیمتیں تمام معروف روزناموں اور جوبلی لائف کی ویب سائٹ: www.jubileelife.com پر شائع ہوتی ہیں۔

آپ کی سرمایہ کاری کیلئے پیکلدار انتظام کاری

ہم آپ کی سرمایہ کاری کیلئے پیکلدار انتظام کاری کی سہولت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنا تمام پرمیئم کسی ایک فنڈ کیلئے مخصوص کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اپنے پرمیئم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے دستیاب فنڈز میں الگ الگ مختص کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً فنڈز کی کارکردگی پر انحصار کرتے ہوئے آپ مختلف فنڈز میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ ہم ہر پالیسی سال کے دوران 4 مفت منتقلی کی اجازت دیتے ہیں۔ پانچویں منتقلی پر چارجز لاگو ہونگے جو کیش ویلیو (Cash Value) / پونٹ اکاؤنٹ سے منتقلی سے پہلے ہی کاٹ لیے جائیں گے

سرمایہ کاری میں اضافہ

آپ کے پاس فاضل رقم کسی بھی مرحلے پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی باضابطہ سرمایہ کاری میں پلان کے تحت ایڈ ہاک پرمیئم کی ادائیگیوں کے ذریعے اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ رقم اس وقت کی جاری قیمت پر پونٹ اکاؤنٹ میں لگائی جائیں گی۔

مہنگائی سے مقابلہ

افراط زر کے پیش نظر آپ کے بیمہ کی رقم اور پرمیئم آپ کی سرمایہ کاری کی رقم کے ساتھ ہر سال از خود بڑھتی رہے گی جو کسی میڈیکل تفتیش کے بغیر ہی کمپنی کی جانب سے مختص کی گئی حدود کے اندر بڑھے گی۔ تاہم آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس اضافے کو چاہیں تو تسلیم نہ کریں اور پلان کو انہی شرائط و ضوابط پر قائم رکھیں جیسے وہ پہلے تھا۔

پلان کی تکمیل سے پہلے پیسوں کی ادائیگی

اس پلان کے تحت آپ اپنے فنڈز (کُلّی یا جزوی طور پر) کیش کرانے کے اہل ہیں بشرطیکہ آپ نے دو سال تک کا پرمیئم ادا کر رکھا ہے۔

- **جزوی بھٹائی۔** اگر آپ کسی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے اپنی رقم نکالنا چاہتے ہیں لیکن پالیسی ختم کرنا نہیں چاہتے تو آپ کوئی بھی رقم نکلا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ آپ کی پالیسی کی ماقی ماندہ کیش ویلیو (Cash Value) بھٹائی کے بعد 25 ہزار روپے یا اس سے زیادہ ہو۔ (باقی ماندہ کیش ویلیو (Cash Value) کی رقم پر کمپنی از سر نو غور کر سکتی ہے)۔
- **پالیسی کا مکمل خاتمہ۔** پالیسی کے دو سال کی تکمیل کے بعد (بشرطیکہ اس کا مکمل پرمیئم ادا کر دیا گیا ہو) آپ اپنی پالیسی ختم کر سکتے ہیں۔ خاتمے کے وقت آپ کو آپ کے فنڈز کی مکمل کیش ویلیو (Cash Value) ادا کر دی جائے گی تاہم پالیسی کے ابتدائی برسوں میں کیش ویلیو (Cash Value) کم ہو سکتی ہے۔

قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ:

جوبلی لائف فائوڈ پونٹ کی قیمتوں کے تعین طریقہ کار کی بیرونی کرتی ہے۔ یہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کی تاریخ کے مطابق فنڈ میں فعال اکائیوں کی تعداد سے تقسیم کر کے تیار کیا جاتا ہے۔

دیگر چارجز*

مندرجہ ذیل چارجز پلان پر لاگو ہیں۔

ابتدائی چارج	5% کا بڈ آف سپیریڈ
مینٹیننس چارجز	1.5% سالانہ کا فنڈ ویلیو
یڈمینسٹریشن فیس	ماہانہ 145 پاکستانی روپے
مورٹلیٹی چارجز	بیس ای سی پی فائنگ کے مطابق
فنڈ سوئیچنگ چارجز	ایک سال میں پہلے چار مفت سوئیچ کے بعد 500 روپے فی فنڈ سوئیچ
پرمیئم ریلیکیشن چارج	سالانہ پرمیئم مختص کا حساب لگایا جاتا ہے کیونکہ پرمیئم کا سو فیصد سال کے لیے مختص کردہ پرمیئم کا کم فیصد وصول کرتا ہے۔

* کمپنی تمام چارجز پر از سر نو غور کر سکتی ہے۔

فری لک عرصہ (Free Look Period)

جوبلی لائف 14 دنوں کی مفت دیکھنے کی مدت پیش کرتی ہے جس کے دوران آپ اپنی پالیسی کے شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور پالیسی میں تبدیلی یا منسوخی پسند کر سکتے ہیں۔ آپ کا پریمیم پالیسی دستاویز کی وصولی کی تاریخ سے 14 دنوں کے اندر تحریری درخواست کی وصولی پر واپس کر دیا جائے گا۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ جوبلی لائف طبی معائنے پر اٹھنے والے اخراجات کو منہا کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے

دوسکیر

- جوبلی لائف کے فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی نشاندہی کرے کوئی بھی کی گئی پیش گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کو ظاہر کرے اور نہ ہی اس سلسلہ میں جوبلی لائف پر کوئی ذمہ داری عائد ہوگی۔
- یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس کے دو الگ الگ عناصر ہیں یعنی انشورنس پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا جزو یونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔
- ذاتی الٹریٹیشن ہمارے سیلر کی نمائندگی کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کی تفصیلات جاننے کے لیے الٹریٹیشن میں دیئے گئے نوٹس کا مطالعہ کریں۔
- براہ کرم دیگر شرائط و ضوابط کے تفصیلی جائزے کے لئے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔
- سرمایہ کاری کا خطرہ پالیسی ہولڈر برداشت کرے گا اور اصل سرینڈرو ویلیو اور میچورٹی ویلیو پر ویکٹڈ ویلیو سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پالیسی ہولڈر پہلے سے طے شدہ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔
- پالیسی حاصل کرتے وقت بیمہ دار کی عمر 55 سال ہو یا اس سے کم ہو تو اسے ضمنی فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔
- براہ کرم بنیادی فنڈ کے ٹارگٹ ایٹس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے:
(<https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>)

رابطہ کی تفصیلات:

شکایت اور مزید تفصیلات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A، لالہ زار ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان 74000

ٹیلی فون: (021) 32120201, 35205094

فیکس: (021) 35610959

ای میل: info@jubileelife.com

یو ایس این: (021) 111 111 554

ایس ایم ایس: اپنا سوال لکھ کر 8554 پر ارسال کریں

ویب سائٹ: www.jubileelife.com